

## Root Words Juz 3-Part 1

### Surah Al-Baqarah –(Verses 253-286)

| Meaning                    | ROOT WORD | WORD            | AYAT |
|----------------------------|-----------|-----------------|------|
| رسول                       | ر س ل     | الرُّسُلُ       | 253  |
| کلام کیا                   | ک ل م     | كَلَّمَ         |      |
| اور اس نے بلند کیا         | ر ف ع     | وَرَفَعَ        |      |
| خرچ کرو                    | ن ف ق     | أَنْفَقُوا      | 254  |
| کوئی خریدو فروخت           | ب ی ع     | بَيْعَ          |      |
| وہ احاطہ کر سکتے           | ح و ط     | يُحِيطُونَ      | 255  |
| تھکاتی اسے                 | أ و د     | يُؤدُّهُ        |      |
| نہیں کوئی جبر/ زبردستی     | ک ر ه     | لَا إِكْرَاهَ   | 256  |
| ہدایت                      | ر ش د     | الرُّشْدُ       |      |
| طاغوت کا                   | ط غ ی     | بِالطَّغُوتِ    |      |
| نہیں ہے کوئی ٹوٹنا         | ف ص م     | لَا أَنْفِصَامَ |      |
| پس مہبوت رہ گیا            | ب ه ت     | فَبُهْتٍ        | 258  |
| گزرا                       | م ر ر     | مَرَّ           | 259  |
| سو                         | م أ ی     | مِائَةً         |      |
| سال                        | ع و م     | عَامٍ           |      |
| ٹھہرے رہے تم               | ل ب ث     | لَبِثْتِ        |      |
| ہڈیوں کے                   | ع ظ م     | الْعِظَامِ      |      |
| ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں انہیں | ن ش ز     | نُنَشِّرُهَا    |      |

|                     |         |                |     |
|---------------------|---------|----------------|-----|
| ہم پہناتے ہیں انہیں | ک س و   | نَكْسُوهَا     |     |
| تاکہ مطمئن ہو جائے  | ط م ا ن | لَيَطْمَئِنَّ  | 260 |
| پھر مائل کرو انہیں  | ص و ر   | فَصْرَهُنَّ    |     |
| ایک دانے کے بے      | ح ب ب   | حَبَّةٍ        | 261 |
| اس نے آگائی         | ن ب ت   | أَنْبَتَتْ     |     |
| بالی                | س ن ب ل | سُنْبَلَةٍ     |     |
| نہ تم ضائع کرو      | ب ط ل   | لَا تُبْطَلُوا | 264 |
| دکھانے کے لیے       | ر ا ی   | رِئَاءَ        |     |
| چکنا پتھر           | ص ف و   | صَفْوَانٍ      |     |
| تو پہنچے اسے        | ص و ب   | فَأَصَابَهُ    |     |
| رضامندی             | ر ض و   | مَرَضَاتٍ      | 265 |
| اور پختگی کے لیے    | ث ب ت   | وَتَشِيئًا     |     |
| ایک باغ             | ج ن ن   | جَنَّةٍ        |     |
| اونچی جگہ پر        | ر ب و   | بِرَبْوَةٍ     |     |
| پہنچے اسے           | ص و ب   | أَصَابَهَا     |     |
| دوگنا               | ض ع ف   | ضِعْفَيْنِ     |     |
| پہنچے اسے           | ص و ب   | يُصِيبَهَا     |     |
| کیا چاہتا ہے        | و د د   | أَيُّودٌ       | 266 |
| بہتی ہیں            | ج ر ی   | تَجْرِي        |     |
| پھل                 | ث م ر   | الْتَّمَرَاتِ  |     |
| بڑھاپا              | ک ب ر   | الْكِبَرُ      |     |
| اولاد               | ذ ر ر   | ذُرِّيَّةٍ     |     |
| کمزور<br>(چھوٹی)    | ض ع ف   | ضُعْفَاءُ      |     |

|                                     |       |                    |     |
|-------------------------------------|-------|--------------------|-----|
| ایک بگولہ                           | ع ص ر | إِعْصَارٌ          |     |
| پس وہ جل جائے                       | ح ر ق | فَأَحْتَرَقَتْ     |     |
| پاکیزہ چیزوں میں سے                 | ط ی ب | مِنْ طَيِّبَاتٍ    | 267 |
| ناپاک                               | خ ب ث | الْخَبِيثَاتِ      |     |
| لینے والے اسے                       | أ خ ذ | بِأَخْذِهِ         |     |
| تم چشم پوشی کر جاؤ                  | غ م ض | تُعْمَضُوا         |     |
| بہت تعریف والا ہے                   | ح م د | حَمِيدٌ            |     |
| شیطان                               | ش ط ن | الشَّيْطَانُ       | 268 |
| ڈراتا ہے تمہیں / وعدہ کرتا ہے تم سے | و ع د | يَعِدْكُمْ         |     |
| بے حیائی کا                         | ف ح ش | بِالْفَحْشَاءِ     |     |
| بخشش کا                             | غ ف ر | مَغْفِرَةً         |     |
| حکمت                                | ح ك م | الْحِكْمَةِ        | 269 |
| وہ چاہتا ہے                         | ش ی أ | يَشَاءُ            |     |
| نصیحت پکڑتے                         | ذ ك ر | يَذْكُرُ           |     |
| نذر مانی تم نے                      | ن ذ ر | نَذَرْتُمْ         | 270 |
| تم ظاہر کرو                         | ب د و | تُبْدُوا           | 271 |
| تم چھپاؤ انہیں                      | خ ف ی | تُخْفَوَهَا        |     |
| وہ پورا دے دیا جائے گا              | و ف ی | يُوفَى             | 272 |
| نہ تم ظلم کیے جاؤ گے                | ظ ل م | لَا تُظْلَمُونَ    |     |
| نہیں وہ استطاعت رکھتے               | ط و ع | لَا يَسْتَطِيعُونَ | 273 |
| چلنے پھرنے کی                       | ض ر ب | ضَرْبًا            |     |
| بچنے کی وجہ سے<br>(سوال سے)         | ع ف ف | مِنَ التَّعَفُّفِ  |     |
| ان کے چہرے کی علامت سے              | س و م | بِسِيمَاهُمْ       |     |

|                      |       |                  |     |
|----------------------|-------|------------------|-----|
| لیٹ کر               | ل ح ف | إِحَافًا         |     |
| رات                  | ل ی ل | بِأَيِّلٍ        | 274 |
| وہ غمگین ہوں گے      | ح ز ن | يَحْزَنُونَ      |     |
| کہاتے ہی             | ا ک ل | يَأْكُلُونَ      | 275 |
| خطبی بنا دیا ہو اسے  | خ ب ط | يَتَخَبَّطُهُ    |     |
| کوئی نصیحت           | و ع ظ | مَوْعِظَةً       |     |
| پھر وہ باز آجائے     | ن ہ ی | فَأَنْتَهَى      |     |
| تو اعلان سن لو       | ف ع ل | تَفْعَلُوا       | 279 |
| جنگ کا               | أ ذ ن | فَأَذِنُوا       |     |
| تو مہلت دینا ہے      | ن ظ ر | فَنَظَرَةٌ       | 280 |
| تم باہم لین دین کرو  | د ی ن | تَدَايِنْتُمْ    | 282 |
| قرض کا               | د ی ن | بِدَيْنٍ         |     |
| وقت                  | أ ج ل | أَجَلٍ           |     |
| مقررہ                | س م و | مُسَمًّى         |     |
| اور چاہیے کہ وہ ٹرے  | و ق ی | وَأَلْيَقٍ       |     |
| وہ کمی کرے           | ب خ س | يَبْخَسُ         |     |
| کمزور                | ض ع ف | ضَعِيفًا         |     |
| وہ استطاعت رکھتا     | ط و ع | يَسْتَطِيعُ      |     |
| اپنے مردوں میں سے    | ر ج ل | مِنْ رِجَالِكُمْ |     |
| تم پسند کرتے ہو      | ر ض و | تَرْضَوْنَ       |     |
| تم اکتاہٹ محسوس کرو  | س ا م | تَسْمَوْنَ       |     |
| تم ظاہر کرو گے       | ب د و | تُبْدُوا         | 284 |
| محاسبہ کرے گا تمہارا | ح س ب | يُحَاسِبُكُمْ    |     |

|                 |       |               |     |
|-----------------|-------|---------------|-----|
| پلٹنا ہے        | ص ی ر | الْمَصِيرُ    | 285 |
| نہیں تکلیف دیتا | ک ل ف | لَا يُكَلِّفُ | 286 |
| بھول جائیں ہم   | ن س ی | نَسِينَا      |     |
| تو ڈال (بوجھ)   | ح م ل | تَحْمِلُ      |     |
| اور درگزر فرما  | ع ف و | وَأَعْفُ      |     |
| مولا ہے ہمارا   | و ل ی | مَوْلَانَا    |     |

## Surah Al-e-Imran – (Verses 1-18)

### Root Words

| Meaning                      | ROOT WORD | WORD           | AYAT |
|------------------------------|-----------|----------------|------|
| فرقان                        | ف ر ق     | الْفَرْقَانَ   | 4    |
| سخت                          | ش د د     | شَدِيدٌ        |      |
| انتقام لینے والا ہے          | ن ق م     | اِنْتِقَامٍ    |      |
| آسمان میں                    | س م و     | فِي السَّمَاءِ | 5    |
| صورت بناتا ہے تمہاری         | ص و ر     | يُصَوِّرُكُمْ  | 6    |
| وہ چاہتا ہے                  | ش ی أ     | يَشَاءُ        |      |
| محکم ہیں                     | ح ک م     | مُحْكَمَاتٌ    | 7    |
| اصل ہیں                      | أ م م     | أُمَّ          |      |
| متشابهہ / باہم ملتی جلتی ہیں | ش ب ہ     | مُتَشَبِهَاتٌ  |      |
| ٹپڑھ ہے                      | ز ی غ     | زَيْغٌ         |      |
| مطلب اس کا                   | أ و ل     | تَأْوِيلِهِ    |      |
| اور جو پختہ کار ہی           | ر س خ     | وَالرَّسْخُونَ |      |

|                      |         |                  |    |
|----------------------|---------|------------------|----|
| بہت عطا کرنے والا    | و ہ ب   | الْوَهَّابُ      | 8  |
| جمع کرنے والا ہے     | ج م ع   | جَامِعٌ          | 9  |
| کام آئی گے           | غ ن ی   | تُغْنِي          | 10 |
| ایندھن ہیں           | و ق د   | وَقُودٌ          |    |
| آلِ فرعون کی         | ف ر ع   | آلِ فِرْعَوْنَ   | 11 |
| بوجہ ان کے گناہوں کے | ذ ن ب   | بِذُنُوبِهِمْ    |    |
| سزا والا ہے          | ع ق ب   | أَلْعِقَابِ      |    |
| ٹھکانہ               | م ہ د   | أَلْمِهَادِ      | 12 |
| البتہ عبرت ہے        | ع ب ر   | لَعِبْرَةٌ       | 13 |
| اور خزانوں سے        | ق ن ط ر | وَالْقَنْطِيرِ   | 14 |
| اور گھوڑے            | خ ی ل   | وَالْخَيْلِ      |    |
| نشان لگے ہوئے        | س و م   | أَلْمُسَوَّمَةِ  |    |
| ٹھکانہ ہے            | أ و ب   | أَلْمَأْبِ       |    |
| تقویٰ کیا            | و ق ی   | أَتَّقُوا        | 15 |
| بہتی ہیں             | ج ر ی   | تَجْرِي          |    |
| اور بچا ہمیں         | و ق ی   | وَقِنَا          | 16 |
| اور اطاعت گزار       | ق ن ت   | وَالْقَانِتِينَ  | 17 |
| اور خرچ کرنے والے    | ن ف ق   | وَالْمُنْفِقِينَ |    |
| انصاف پر             | ق س ط   | بِالْقِسْطِ      | 18 |